



اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچے گا اگر اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں، اگر روزِ کاظمہ آپ میں خوف پیدا کرتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرتی جائے، اگر آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کے پاؤں تیرائی کے راستے پر جان سے نکل جاتے ہیں تو کلمہ آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوئے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ صالح بننا مسلسل تہکمہ اور عبادت کا عمل ہے اس میں وقت لگتا ہے اور تکلیفیں بھی سہنا ہوتی ہیں۔

Translation:

If the world does not attract you towards itself, if the fear of Allah brings tears in your eyes, if the thought of hell produces fear in you, if you worship Allah in a way that it ought to be done, if kindness/goodness appeals you towards it and your feet repel to go on a ~~wrong/evil~~ path then you are virtuous/intact. Some are righteous, and some ~~are made~~ **some pretend to be** virtuous. To be a righteous is a matter of good luck. To become a righteous is required a continuous



Sanctification and strive. It would take
time and hardships to be faced as well.
hardships have to be faced as well

need improvement in basic grammar
presentation is poor
5/10